

شرح التمام في أحاديث الأحكام

للشيخ العافظ فيصل علي مودني حفظه الله

تفريغ الدرس الثاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف وسيد الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

Ow'ekitiibwa tumutenda n'amatendo amalungi era amajjuvu, tumusaba
asse okusaasira n'emirembe ku Nabbi محمد ﷺ ne ku bantu b'enjuuye ne ba
swahaababe, n'abakkiriza bonna okutuusiza ddala ku lunaku olw'enkomerero.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ
جُنُبٌ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَالْبُخَارِيُّ: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ)).

وَمُسْلِمٌ مِنْهُ وَلِأَبِي دَاوُدَ: ((وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ)).

Hadith eva ku أبو هريرة رضي الله عنه، agamba nti Omubaka محمد ﷺ yagamba nti;

"لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ"

Ate mu [Ekkubo hadith mweyayitira] رواية ya إمام البخاري yagamba Omubaka محمد ﷺ nti;

"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ"

Era hadith y'emu eyo mu njatula eyo, إمام مسلم yajireetera mu صحيح ye nga agamba nti;

"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ"

So nga ate إمام أبو داود السجستاني رحمه الله عليه naye hadith eyo yajireeta mu kitabo kye mu njatula;

"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ"

Netuba nga tulina enjatula ssatu ku hadith emu;

- ❖ Enjatula esooka eri mu **صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ**.
- ❖ Enjatula eyookubiri eri mu **صَحِيحُ مُسْلِمٍ**.
- ❖ Ate eyookusatu eri mu **سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ**.

Enjatula eri mu **صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ** eyo ye njatula eri mu **صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ**.

Ate enjatula eri mu **صَحِيحُ الْمُسْلِمِ** "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ": **صَحِيحُ الْمُسْلِمِ**

Ate enjatula eri mu **سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ** "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ": **سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ**

Nga ssinnaba kunnyonnyola **رَوَايَةٌ [Ekkubo eddala hadith mweyayitira]** eri eyasoose eri mu **صَحِيحُ مُسْلِمٍ** egamba nti: **لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ**

Ngenda kusooka ne **رَوَايَةٌ [Ekkubo eddala hadith mweyayitira]** eno esembyeeyo, **بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ**, olwensonga nti **رَوَايَةٌ [Ekkubo hadith mweyayitira]** eyo eri **صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ** "مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا", mu **صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ** mweeri ne **مُسْلِمٍ**, njatula zokka z'ezaawukana ku nkomerero oba olyaawo ne mu makkati.

Wabula **رَوَايَةٌ [Ekkubo eddala hadith mweyayitira]** eri eya: **لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ**, eri mu **صَحِيحُ مُسْلِمٍ** wokka, kati tujja kusooka n'eno eri mu **بُخَارِيِّ** ne **مُسْلِمٍ** then[awo nno] ate tusembyeeyo eri **إِمَامُ مُسْلِمٍ** jeyeeyawulira nayo yekka...

Mu kitabo **((الْتَّمَامُ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ))**, omuwandiisi yasooka ne **رَوَايَةٌ [Ekkubo hadith mweyayitira]** eri egamba nti: **لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ**

Eyo jeyasoosa mu kitabo kye, naye nze ssi jengenda okusooka okunnyonnyola, ngenda kusoosa eno **رَوَايَةٌ [Ekkubo hadith mweyayitira]** namba bbiri egamba nti;

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

Eyo jengenda okusooka okunnyonnyola olwensonga nti yyo eri mu **صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ** ne **مُسْلِمٌ** ate eri, eri mu **مُسْلِمٌ** mwokka_.

أَبُو هُرَيْرَةَ atugamba nti omubaka **مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** yagamba nti:

"لَا يُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ"

Omu mu mwwe tafuuyisanga, takojobanga, takunkumulanga, mu mazzi agalegamyeye awantu, agakungaanidde awantu, nga amazzi ago tegakulukuta, gakungaanidde awantu ate tegakulukuta, omu mu mmwe takojoba nga, tafuuyisanga mu mazzi agalegamyeye awantu oba agakungaanidde awantu nga tegakulukuta

"ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ"

Ate nga oluvannyuma ajja kweetaaga okuganaabamu.

Eyo ye njatula eri mu **صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ**, wabula ate enjatula eri mu **صَحِيحُ مُسْلِمٍ**;

"لَا يُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ"

Omu mu mmwe takunkumulanga, tafuuyisanga, takojobanga mu mazzi agalegamyeye awantu oba agakungaanidde awantu

"ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ"

Ate nga oluvannyuma agenda kuganaabako.

- ❖ Eri yagambye “nga ate oluvannyuma agenda kuganaabamu”, tujja kukinnyonnyola **يَاذُنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** kitegeerekeke, nga ate oluvannyuma agenda kuganaabamu.
- ❖ Ate eno eyookubiri eri mu **صَحِيحُ مُسْلِمٍ**, “nga ate oluvannyuma agenda kuganaabako”, **طَيِّبٌ**.

Mu hadith eyo tuyinamu a ((مَسَائِلُ)) agawera, tuyinamu ensonga eziwera.

ENSONGA ESOOKA

Omubaka محمد ﷺ agambye nti: "لَا يُؤْنَسُ أَحَدٌ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي".

Katutandikire ku: "الماءُ الدائمُ الَّذِي لَا يَجْرِي".

Osaanidde okimanye nti amazzi gaawulwaamu emiteeko ng'esatu oba ena mu kukulukuta kwaago n'obutakulukuta kwaago.

OMUTEEKO NAMBA EMU

Eriyo amazzi nga amazzi ago galegamyem mu awantu, naye nga awantu awo wegalegamyem ssi gaakubeerawo lubeerera, tegali permanent[kubeerawo lubeerera] mu kifo ekyo wegalegamyem, kyokka ate the same time[mu kaseera ako kennyini] amazzi ago n'okukulukuta tegakulukuta, ago amazzi agafaanaganako bweegatyem getuyita: "الماءُ الرَّائِدُ الَّذِي لَا يَجْرِي"

Amazzi agakungaanidde awantu naye nga ate tegakulukuta, nga bw'olaba amazzi **g'ekitaba**, wegakungaanidde ssi gaakubeerawo lubeerera, esaawa yona gavaawo, **either** omusana guyinza okugakaza oba ekintu ekirala kyonna kisobola okuba ntinno kigajjawo, **ekikulu** nti wegali gakungaaniddewo naye ssi gaakubeerawo lubeerera, ssi gaakubeerawo banga lyonna, kyokka ate mu mbeera y'emu amazzi ago tegakulukuta, ago getuyita: "الماءُ الرَّائِدُ الَّذِي لَا يَجْرِي", طَيِّب.

OMUTEEKO NAMBA BBIRI

Geamazzi agakungaanidde awantu naye nga gaakubeerawo lubeerera mu mbeera nti waliwo ensulo ekola nga source[ensibuko] y'amazzi ago, ensulo eyo buli ssaawa ebeera efulumya amazzi, nekiba nga kizibu amazzi ago okuba ntinno gaggwa mu kifo ekyo okujjako nga ensulo eyo bamaze jizibikira n'eba nga tekyaaaleeta mazzi, naye ebbanga ly'emala nga ensulo eyo ekyaaaleeta amazzi, amazzi ago gaakubeerawo lubeerera.

Kyokka mu kuba ntinno ensulo eno eweereza amazzi, amazzi negakungaanira somewhere[awantu wonna] negaba nga gaakubeerawo lubeerera naye ate tegakulukuta, gaakubeerawo lubeerera wegakungaanidde olw'ensulo eno ekola nga source[ensibuko] y'amazzi ago naye ate amazzi gano tegakulukuta, ago amazzi agafaanaganako bweegatyo getuyita: "الماء الدائم"

Amazzi agali mu kifo nga gaakubeerawo lubeerera

Lwaaki?, olwensonga ntinno waliwo "نِعْمَ يَغْتَبِه"

Waliwo ensulo, source[ensibuko] e supplyinga[egaba] amazzi gano wegali, waliwo ensulo ewereza amazzi buli ssaawa, buli ddakiika, naye ate amazzi gano tegakulukuta.

Ago getuyita: "الماء الدائم الذي لا يجري"

Mu kifo wegali gaakubeerawo lubeerera olw'ensulo eyo eriwo naye ate tegakulukuta, era omuteeko ogwo gweemuteeko gw'amazzi Omubaka محمد ﷺ gw'ayogerako mu hadith eno, طيب.

OMUTEEKO NAMBA SSATU

Geemazzi agakungaanidde awantu nga gaakubeerawo lubeerera kyokka nga n'okukulukuta gakulukuta, wegali gaakubeerawo lubeerera, ate n'okukulukuta gakulukuta, ago amazzi agafaana bweegatyo getuyita: "الماء الدائم الذي يجري"

Amazzi agali mu kifo nga gaakubeerawo lubeerera olw'ensulo eweereza amazzi mu kifo ekyo naye nga ate amazzi gano gagasseeko ekitendo namba bbiri eky'okuba ntinno "gakulukuta", wegali gaakubeerawo lubeerera ate n'okukulukuta gakulukuta nga bw'olaba amazzi "ag'omugga".

OMUTEKO OGUSEEMBAYO

Gweemuteeko gw'amazzi nga wegali ssi gaakubeerawo lubeerera kyokka ate "gakulukuta", wegali ssi gaakubeerawo lubeerera, lwaaki?, kubanga tewaliiwo nsulo, naye ate gakulukuta.

Ago getuyita: "الماء الراكد الذي يجري"

Nga bw'olaba amazzi "gaamukoka", amazzi ga mukoka gakulukuta naye ate ssi gaakubeerawo lubeerera, طيب.

Kati mu miteeko ejo jonna ena jensuubira nti owandiise era wooba towandiise otegedde bulungi emiteeko ejo, mw'ejo emiteeko jonna ena Omubaka محمد ﷺ yalondamu omuteeko gumu, omuteeko ogwo n'atugaana okugukojobamu, n'atugaana okugufuuyisaamu, n'atugamba nti;

"لا يبون أحدكم"

Omu mu mmwe takojobaanga, tafuuyisanga

"في الماء الدائم الذي لا يجري"

Mu mazzi agali mu kifo nga gaakubeerawo lubeerera olw'ensulo eno eriwo naye nga ate amazzi gano tegakulukuta, gasobola okubeera amazzi g'oluzzi nga oluzzi olwo lwa nsulo naye nga ate terukulukuta, nga amazzi gaalwo tegakulukuta, nga bw'osenamu amazzi ensulo nga ezzaawo ago amazzi g'osenyeewo, bwoddamu n'osenamu ensulo nga ezzaawo, وهكذا, gabeerawo, gaalubeerera naye ate tegakulukuta, ago amazzi agafaanaganako bweegatyo Omubaka محمد ﷺ g'ayogerako wano, "nti tewabaangawo n'omu mu mmwe agakojobamu, tewabaangawo n'omu mu mmwe agafuuyisaamu".

LWAAKI OMUBAKA مُحَمَّد ATUGAANA OKUFUUYISA MU MAZZI AGO?

Omubaka ﷺ atugaana okufuuyisa mu mazzi ago olwensonga nti amazzi ago manafu nnyo tegasobola kuwanirira **bukyaafu** kumala bbanga, **lwaaki?**, **kubanga tegakulukuta**, mazzi manafu, gasobola okukosebwa obukyaafu mu kaseera katono okwaawukanako n'amazzi gali agali mu kifo nga gaakubeerawo lubeerera nga ate n'okukulukuta gakulukuta, ago amazzi gabeera g'amaanyi, ssi kyangu nnyo **نَجَسُ**[**obukyaafu**] kugakosa, ssi kyangu nnyo bukyaafu kugakosa okwaawukanako ne gano agali mu kifo nga gaakubeerawo lubeerera naye nga ate tegakulukuta, obukyaafu kyangu nnyo okuba ntinno bukosa amazzi ago, **wabula** jiri emiteeko ebiri ejisigaddeyo, omuteeko gw'amazzi agalegamyeye awantu nga ssi gaakubeerawo lubeerera, ago amazzi ate ggo manafu nnyo, obukyaafu kyangu nnyo okuba ntinno bukosa amazzi ago, amazzi agalegamyeye awantu nga ssi gaakubeerawo lubeerera nga n'okukulukuta tegakulukuta, ago kyangu nnyo obukyaafu okuba ntinno bugakosa, era ky'ekimu ne kugali amazzi agali mu kifo nga ssi gaakubeerawo lubeerera naye nga ate gakulukuta ago nago kyangu nnyo okuba ntinno obukyaafu bugakosa, **wabula** gano amazzi agali mu kifo olubeerera nga n'okukulukuta gakulukuta, Omubaka teyagoogerako olwensonga nti ggo kizibumu okuba ntinno gakosebwa obukyaafu, **طَيِّبٌ، بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ**.

A ((مَسْأَلَةٌ)) AGASOOKA.

Okufuuyisa, okukojoba mu mazzi agali awantu olubeerera naye nga tegakulukuta kiramulwa kitya?, okufuuyisa mu mazzi agali awantu lubeerera naye nga amazzi ago tegakulukuta kiramulwa kitya?.

Okwaanukula nti abamanyi baayawukana mu bulamuzi bw'ekyo, abamanyi abasinga obungi bali ku kigambo **ekigamba nti**: "kitamwa okufuuyisa oba okukojoba mu mazzi agali mu kifo olubeerera naye nga ate tegakulukuta", ekyo ky'ekigambo ky'aba **مَالِكِيَّة**[**Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno**], ky'ekigambo ky'aba **شَافِعِيَّة**[**Abagoberera endaba ya Imaam Shaafi ع ku**

nsonga eno], era ky'ekigambo ky'aba حَنْبَلَةٌ [Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno].

Bagamba nti: “kitamwa omuntu okuba ntinno afuuyisa mu mazzi agali mu kifo olubeerera, **المَاءُ الدَّائِمُ**”, naye nga ate tegakulukuta, **“الَّذِي لَا يَجْرِي”**, kitamwa.”

Sso nga ate bbo ba حَنْفِيَّةٌ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu haniifah ku nsonga eno] neba ظَاهِرِيَّةٌ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] bali ku ekigamba nti: “kiri **haraam** okufuuyisa mu mazzi agakungaanidde mu kifo nga gaakubeerawo lubeerera naye nga ate tegakulukuta, ekyo kiri **haraam**.”

Ba ظَاهِرِيَّةٌ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] neba حَنْفِيَّةٌ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu haniifah ku nsonga eno] beseembesa bujulizi ki ku kigambo kyaabwe eky'okuba ntinno: “kiri **haraam** okufuuyisa mu **المَاءُ الدَّائِمُ الَّذِي لَا يَجْرِي**”.

Obujulizi bwe beseembesa ye hadith eno yennyini eya أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

- ❖ Omubaka مُحَمَّدٌ ﷺ agambye nti: **“لَا يَبُولُنَّ”**, eyo “لا”, tujiyita **“لَا النَّاهِيَّةُ”**, ((لَا)) eziyiza.
- ❖ Omubaka مُحَمَّدٌ ﷺ n'ayogera mu njogera ey'okukkaatiriza okuziyiza kwe nga akozesa ennyukuta eya “ن”, jetuyita **“نُونُ التَّوَكِيدِ”**, ennyukuta ekkaatiriza ensonga.

Yagamba nti: **“لَا يَبُولُنَّ”**

Takojoba nga omu mu mmwe, yakkaatiriza okuziyiza kwe ﷺ ku nsonga eyo, ba حَنْفِيَّةٌ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu haniifah ku nsonga eno] neba ظَاهِرِيَّةٌ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] nebasinziira kw'ekyo nebagamba ntinno: “kiri **haraam** omuntu okuba ntinno afuuyisa mu mazzi agali mu kifo olubeerera naye nga ate tegakulukuta”, nga beseembesa hadith eyo, anti bagamba ntinno: **“النَّهْيُ يَفِيدُ التَّحْرِيمَ”**

"نَهْيٌ", okuziyiza wonna w'obeera okusaanze kubeera kuli mu kukutegeeza nti ekiziyiziddwa kiri **haraam**, wonna w'obeera osaanze okuziyiza babeera bali mu kukutegeeza nti ekyo ekiziyiziddwa, ekigaaniddwa kiri **haraam** okuba ntinno okikola okujjako nga walabiseeyo obujulizi obulala obweeyawulidde nga bbwo bulaga ntinno kino ekiziyiziddwa teb'ayagadde ku kutegeeza nti kiri **haraam** wabula b'ayagadde ku kutegeeza nti kitamwa, wabula obujulizi obwo webuba nga tetunnaba kubufuna obw'eyawulidde tusigala ku kikolo eky'okuba ntinno okuziyiza, okugaana, kubeera kuli mu kukutegeeza nti ekyo ekitugaaniddwa, ekituziyiziddwa, kiri **haraam** jetuli okuba ntinno tukikola, ekyo ky'ekigambo ky'aba , حَنْفِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu haniifah ku nsonga eno] era ky'ekigambo ky'aba ظَاهِرِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] mu ((مَسْأَلَةٌ)), طَيْبٌ.

Bali abasatu, مَالِكِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno], شَافِعِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Shaafi' ku nsonga eno], neba حَنَابِلِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno], beseembesa bujulizi ki ku kigambo kyaabwe?.

Beseembesa hadith essatu ezikulembede, ba شَافِعِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Shaafi' ku nsonga eno] neba حَنَابِلِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno] beseembesa hadith ya ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمَا nga Omubaka مُحَمَّدٌ ﷺ agamba nti;

"إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَجْمَلِ الْخَبْثُ"

Amazzi bwegaba nga gaweza ((قَلَّةٌ)) bbiri n'okudda waggulu,

Amazzi ago: "لَمْ يَجْمَلِ الْخَبْثُ"

tegasobola kuba ntinno gakosebwa obukyaafu, tegasobola ku kosebwa نَجَسٌ [obukyaafu], nebeseembesa hadith eyo okulaga ntinno tekiri **haraam** wabula kitamwa omuntu okufuuyisa mu

mazzi agali mu kifo nga gaakubeerawo lubeerera olw'ensulo naye nga ate tegakulukuta, amazzi ago bwegaba nga gaweza ((قَلَّةٌ)) bbiri n'okudda waggulu, amazzi ago okugafuuyisaamu kitamwa kubanga tegasobola kukosebwa bukyaafu newooba nga ogafuuyisizzaamu, wabula bwegaba nga gali wansi wa ((قَلَّةٌ)) bbiri, tegaweza ((قَلَّةٌ)) bbiri, amazzi ago gabeera gagenda kukosebwa e **نَجَسٌ**[obukyaafu] era ago ggo kiri **haraam** okuba ntinno omuntu agafuuyisaamu, ekyo ky'ekigambo ky'aba **حَنَابِلَةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno], era ky'ekigambo ky'aba **شَافِعِيَّةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Shaafi' ku nsonga eno].

Wabula bbo ba **مَالِكِيَّةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Malik ku nsonga eno] beseembesa hadith ya **أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ** nga Omubaka **مُحَمَّدٌ ﷺ** ayogera ku luzzi **"بُضَاعَةٌ"**.

"Oluzzi" olwaali lulimu ebikyaafu eby'enjawulo, obugoye abakyaala bwe beeyambisaanga mu nsonga zaabwe, bwepo n'emiguunwa j'embwa oba emiraambo j'embwa, n'ebintu ebirala ebyeenyinyaza byonna byaali bijjudde, bifumbekedde mu luzzi olwo, kyokka ate Omubaka **مُحَمَّدٌ ﷺ** ne bamusanga nga ali mu kufunisa mazzi ga luzzi olwo wuzu, Omubaka **مُحَمَّدٌ ﷺ** webaamubuuza ku nsonga eyo yagamba nti:

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ

Amazzi ebbaanga lyonna gabeera matukuvu,

لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ

Oli newaaba nga agafuuyisizzaamu, oli newaaba nga agakozeemu kyonna ky'aba agakozeemu, kasita gaba nga tegakyuusizza langi yadde empunya yadde empooma, amazzi ago gasigala gakyaali matukuvu.

Ba **مَالِكِيَّةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno] bbo nebeesembesa ekyo okulaga nti kitamwa butamwa okuba ntinno omuntu afuuyisa mu mazzi agali mu kifo olubeerera naye nga ate tegakulukuta.

Wabula ekigambo ekituufu kiri neba **حَنَفِيَّةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Abu haniifah ku nsonga eno] bweppo neba **ظَاهِرِيَّةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] eky'okuba ntinno kiri **haraam** omuntu okufuuyisa mu mazzi agali mu kifo olubeerera nga ate tegakulukuta, ekyo kiri **haraam, Iwaaki?**, olwensonga nti bali obujulizi bwe beesembesezza ekituufu kiri nti tebuliimu mbavu era tebusoonze direct[butereevu] ku nsonga eno, sso nga ate obujulizi bwa ba **حَنَفِيَّةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Abu haniifah ku nsonga eno] bweppo n'obwa **ظَاهِرِيَّةٌ**[Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] busonze butereevu, buteebedde butereevu mu nsonga, **Omubaka agambye nti: "لا يبولن"**, okwo kuziyiza.

Buli obujulizi tebutukkusizza, tebutumatizza nti ddala okuziyiza kuno Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** kw'aziyizizza mw'eno hadith tuyina kweyambisa bujulizi buli bali bwe beesembesezza okulaga ntinno ssi kwa **((حَرَامُ))** wabula kwa **كِرَاهَةٌ** [Kutamwa], kwa kutamwa butamwa, buli obujulizi tebukkusa era tebumatiza, sso tusigala ku kigambo kya Mubaka **مُحَمَّدٌ ﷺ** eky'okuba nti yatuziyiza, yatugaana sso nga ate **"النَّهْيُ"** ebaanga lyonna **"يُقِيدُ التَّحْرِيمُ"**

Okuziyiza oba okugaana kibeera kiri mu kukutegeeza nti ekyo ekikugaaniddwa, ekikuziyiziddwa
kiri **haraam** okuba ntinno okikola.

فَائِدَةٌ[AMAZZI GA SWIMMING POOL]

- ❖ Kaakati jebayita ensulo ebeera eva mu ttaka, amazzi gaba gava mu ttaka, kaakati gasobola okuba nga gayina wegakunganira, nga wegava mu ttaka gayina ekiriinga ekidiba

mwegakunganira, kati ago getuyita: ((الماء الدائم)), kubanga waliwo ensulo, gaba gaakubeerawo lubeerera okujjako nga ensulo eyo ezibikiddwa, naye ebbanga ly'emala nga ensulo eyo tennazibikirwa ebeera eweereza amazzi buli ddakiika eyitawo buli ddakiika eyitawo, kati amazzi ago wegali gaba gaakubeerawo lubeerera ebbanga ensulo eyo ly'emala nga ekyaaliwo.

- ❖ Newabeerwo n'amazzi amalala, amazzi ag'omudumo, waliwo amazzi ag'omudumo, omudumo neguba nga guweereza amazzi, oluusi omudumo ogwo amazzi gabeera ga gujja ku nsulo **either** nga waliyo oluzzi oluli somewhere[awantu] nga oluzzi olwo luyina ensulo nga omudumo guno guli **connected[gugattiddwa], guyungiddwa** ku luzzi olwo, oba okuba ntinno omudumo guno guli **connected[gugattiddwa, guyungiddwa]** ku mugga, kati nga amazzi gaba gayitira mu mudumo guno nga b'aziimbawo bulungi nemuba nga musobola okuba ntinno musena amazzi ku mudumo ogwo.

Kati mu mbeera emu kw'ezo ebbiri, swimming pool eyina nsulo nti yeweereza amazzi ago nga eri wansi mu ttaka, oba swimming pool eyina mudumo nga omudumo ogwo buli saawa gubeera gufulumya amazzi, guba gufulumya amazzi, guba gufulumya amazzi, oba b'atekamu ka taapu, nga akataapu ako kaba kasumulule ever[lubeerera], kaba kayingiza amazzi mu swimming pool omwo?

Ku byonna sssikakasa nti kuliko ekituufu, kati ago amazzi tugayita: "الماء الرَّاكِدُ", gakungaannyiziddwa bukungaanyizibwa mu kifo ekyo nga bw'onaalaba ekitaba, kati gaba gakungaanyiziddwaawo kyokka ate n'okukulukuta tegakulukuta, okujjako waliwo swimming pools ezimu nga ziyina amazzi agakulukuta, nga ziyina amazzi gakulukuta, naye zendaba wano ewaffe mu Uganda ezisinga obunji amazzi tegakulukuta, kati mu mbeera efaanaganako bw'etyo ago amazzi

tekikirizibwa ku gafuuyisaamu kubanga bwaaba nga Omubaka محمد ﷺ atugaanye kufuuyisa mu "الدائم الذي لا يجري".

Kiba kitegeeza nti ate okutugaana okufuuyisa mu "الماء الراكد الذي لا يجري", ekyo kiri ((من باب أولى)).

Tujja kulaba emu ku nsonga lwaaki Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ atugaana okufuuyisa mu mazzi ago, nga ensonga eyo ekwaataganira ddala buterevu n'amazzi ga swimming pool, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ, era ssikakasa ntinno singa ggwe olaba omuntu nga ayimiridde waggulu ku swimming pool ali mu kufuuyisaamu مثلاً [kyaakulabirako], ali mu kukojoba mu mazzi, ssikakasa nti omutima gwo gusobola okuba omutebenkevu okugwa mu pool eyo, ssikakasa nti omutima gwo gusobola okubeera omutebenkevu ogwe mu swimming pool eyo owuge, بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ ((أبَدًا)).

Sso a ((مَسْأَلَةٌ)) agasoose tugambye nti kiri **haraam** okufuuyisa mu "الماء الدائم الذي لا يجري", okufuuyisa mu mazzi agali mu kifo olubeerera nga ate tegakulukuta, ekyo kiri **haraam** tokkirizibwa ku kikola, طيب.

Abaffe Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ agambye nti: "لا يُؤَلَّن", takojobanga, tafuuyisanga, singa sseeka nze mba nga ssifuuyisizza mu mazzi wabula nga ngamaliddemu حَاجَةٌ [Ekyetaago] nnene, ngakozeemu ppupu, ssigafuuyisizzaamu, ate Nabbi yagaana kugafuuyisaamu, nze ssigafuuyisizzaamu wabula ngakozeemu ppupu, ekyo kkyo kiramulwa kitya?.

Okwaanukula nti: Abamanyi b'ayawukana ku nsonga eyo.

((جُمْهُورٌ)), abamanyi abasinga obungi bali ku kigambo ekigamba nti: kiri **haraam** tekikirizibwa kukola ppupu mu mazzi ago agali mu kifo olubeerera nga ate tegakulukuta, kiri **haraam** amazzi ago okugakolamu ppupu, **lwaaki?**, olwensonga nti bwaaba nga Nabbi yagaana kugafuuyisaamu nga ate okugafuuyisaamu ky'ekiri layisi layisi okusinga omuntu agakozeemu ppupu kiba kitegeeza nti

ate **okuziyiza omuntu agakozeemu ppupu ekyo kiri ((مِنْ بَابِ أَوْلَى))**, bwaaba nga Nabbi yagaana kugafuuyisaamu kiba kitegeeza nti ate okuziyiza, oba omuntu okugaanibwa okugakolamu ppupu ekyo kiri ((مِنْ بَابِ أَوْلَى)).

Nga era bw'olaba **اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** bweyatugamba okugondera abazadde n'okubayisa obulunji n'atugamba nti:

﴿...وَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أَفْ...﴾

Abazadde togezaanga n'ovaamu ekigambo ky'okubeekaanya

Ba **ظَاهِرِيَّة**[Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] bbo nebavaayo nebagamba nti: “**anhaa**”, **اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** atugaanye kw'ogera nabo bubu, atugaanye kubeekaanya, naye tannaba kutugaanako kubakuba, kati yye omu **ظَاهِرِي**[Agoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] n'akugamba nti: “**omuzadde mukube naye nga tonyega!, kuba nga osirise, tomunyega ekigambo kyonna!**”.

Abamanyi abasing obungi ((مِنَ الْمُفْسِّرِينَ)) nebagamba nti nedda!, **اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** bwaaba nga atugaanye okweekaanya abazaade nga n'ekkyo ky'ekigambo ekisingayo okubeera ekitono, kubeekaanya!, omuzadde n'abaako nekyaakugamba n'ogamba nti: “**aaa**”, bwaaba nga ekyo **Allah** kyaatugaanye, kiba kitegeeza nti ate okubakuba ekyo kibeera kiusse, okubakuba kibeera kiusse!.

Kaakati ne mu mbeera eno Omubaka atuziyizizza kufuuyisa mu mazzi, kiba kitegeeza nti ate okukolamu ekinene nga nakyo kwe kukolamu ppupu ekyo kiri ((مِنْ بَابِ أَوْلَى)), tokkirizibwa ku kikola.

Wabula bbo ba **ظَاهِرِيَّة**[Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] nga **إِمَامُ ابْنِ حَزْمٍ** bw'alaga mu kiatabo kye ((المَحَلِّي)), bbo bagamba ntinno omuntu singa abeera afuuyisizza mu mazzi, **wuliriza ebigambo bino, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ!**, omuntu singa abeera afuuyisizza

mu mazzi ekyo kyaaba akoze kiri **haraam** era afuna omusango, wabula ate singa abeera akozeemu ppupu tafuna musango singa amazzi ago gaba tegakyuuse langi, mpunya wadde mpooma olwa ppupu gw'agataddemu, tafuna musango, kasita ppupu aba nga taviiriddeeko mazzi kukyuuka langi, yadde empunya yadde empooma, **Iwaaki?**, kubanga Nabbi yagaana kugafuuyisaamu, tannagaanako kugakolamu ppupu, kati okugafuuyisaamu obutereevu ekyo kkyo kiri **haraam** newegaba tegakyuusizza langi, yadde empunya yadde empooma, naye ate singa aba agakozeemu ppupu negatakyuusa langi yadde empunya yadde empooma ekyo tekiri **haram** era tafuna musango gwonna, abo beeba ظَاهِرِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno].

Wabula ekigambo ekituufu ky'ekigambo ky'abamanyi abasinga obunji, ekigambo ky'aba مَالِكِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno], aba حَنْفِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu haniifah ku nsonga eno], ba شَافِعِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Shaafi ع ku nsonga eno] neba حَنَابِلِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno].

Ekigambo kyaabwe ky'ekituufu, nti Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ bwaaba nga yatugaana kugafuuyisaamu kiba kitegeeza nti ate okutugaana okugakolamu ppupu ekyo ate kiri mu class[ddaala] ndala_ طَيِّب.

Abaffe singa omuntu amazzi aba tagakojobyemu butereevu, wabula amazzi gano n'akojoba mu kyombo, akojoby mu kabaketi, akojoby mu bbaafu oba ekidoli, bwaamaze okukojoba mu kidoli ekyo n'alyooka akwaata omukojobo guno n'aguyiwa mu mazzi ago agali mu kifo olubeerera olwe nsulo eweereza amazzi mu kifo ekyo naye nga ate tegakulukuta, ye n'akwaata bbaketi, n'akwaata bbaafu, n'akwaata ekidoli nga mweyafuuyisizza, omukojobo n'aguyiwa mu mazzi ago, Nabbi agambye: "لَا يُؤْمِنُ", "takojobanga omu mu mmwe,

tafuuyisanga omu mu mmwe”, amakulu nti takikolanga obutereevu, wabula singa abeera afunye bbaafu nga mweyafuuyisizza n’ayiwamu, ekyo Nabbi tannakigaana, ekyo kkyo kiri kitya?.

Okwaanukula nti: abamanyi b’ayawukana, abamanyi abasinga obunji, حَنْفِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu haniifah ku nsonga eno], ba مَالِكِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Malik ku nsonga eno], شَافِعِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Shaafiع ku nsonga eno] neba حَنْبَلِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno] bali ku kigaambo ekigamba nti: n’ekyo kyennyini kiri haram, nakyo tekikkirizibwa, kubanga Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ ensonga kweyasenziira okugaana omuntu okufuuyisa mu mazzi, ensonga eyo yennyini ebeerawo ne mu kiseera nga omuntu omukojobo ayiyeemu muyiwe mu mazzi, ensonga kweyasenziira okutugaana okufuuyisa mu mazzi, nebwo kwaata bukwaasi bbaketi oba bbaafu nga mweemuli omusulo n’oyiwa mu mazzi ago ensonga y’emu eyo ebeerawo, **nsonga ki?**, y’akwoonoonera bantu mazzi gaabwe.

Abantu abamu bayina obulwadde nga obulwadde obwo busobola okuyitira mu musulo, بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ, kaakati nga singa obeera ofuuyisizza mu mazzi ago, amazzi ago gasobola okufuna obuwuka okuva mu musulo gwo ogwo okukkakkana nga abantu abalala bakoseddwa, era ky’ekimu omukojobo guno oguli mu kyombo, bbaafu, baketi n’ebisigadde gusobola okubeeramu obuwuka obwo nga singa obeera oguyiye mu mazzi obuwuka obwo bugenda **kontaminetingisa[kukyyafuwaza]** amazzi gano abantu abasingadde bakosebwe.

Kati Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ ekyaamutugaanyisa okuba ntinno tufuuyisa mu mazzi kyennyini ekyo kibeerawo nebwetuba nga tetufuuyisizzaamu butereevu wabula nga omusulo tuyiyeemu muyiwe, ekyo ky’ekigambo ky’abamanyi abasinga obunji, بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ.

Ssikakasa nti waliyo omuntu ayinza okukulaba nga okutte ebaafu y’omukojobo, oba ebbaketi y’omukojobo nga oli mu kuyiwa mu luzzi, omuntu oyo najja n’ekidomola n’omutima omwanjulukufu obulunji n’asena amazzi mu luzzi olwo lw’alabiddeko ddala nga oluyiwamu omukojobo, tofuuyisizzaamu wabula alabye oyiwamu omukojobo okuva mu bbaafu, **abaffe bw’obeera ggwe ddala ddala amazzi ago oyinza okugasena n’ogatwaala ewaka n’ogakozesa?**

Okwaanukula nti nedda, amazzi ago ogenda kugatamwa era n’oyo akoze ekikolwa ekyo ogenda kumuvumirira, naye ate omusulo guno tagukojobyemu butereevu wabula ayiyeemu muyiwe!. Kati ensonga eyo yennyini y’eyagaanyisa ffe Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ okuba ntinno tukojoba mu mazzi ago ebeererawo ddala omuntu newaaba nga omukojobo ayiyeemu muyiwe.

Ba **ظَاهِرِيَّة** [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] bbo bagamba nti: “waaba nga ayiyeemu muyiwe tafuna musango kasita amazzi gano tegakyuusa langi, tegakyuusa mpunya, tegakyuusa mpooma, tafuna musango, wabula ate w’aba nga afuuyisizzaamu butereevu afuna omusango kubanga ky’aba akoze kiri **haram**”_.

Ba **ظَاهِرِيَّة** [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] beseembesa hadith eyo, kubanga Omubaka agambye nti: "**لَا يُولَن**", amakulu ali mu kuziyiza ono afukamu butereevu, tali mu kuziyiza ono ayiyeemu obuyiyi, wabula ekigambo ekituufu kiri neba **جمهور** [Abamanyi abasinga obunji], Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ yatugaana okufuuyisa mu mazzi, **kigendererwa ki lwaaki atugaana okufuuyisa mu mazzi?!**, **abaffe ekigeendererwa ekyo ekyamugaanyisa Nabbi okuba ntinno ffe tufuuyisa mu mazzi kituukirira omuntu singa omukojobo abeera ayiyeemu muyiwe?**

Okwaanukula nti yye.

Ekirala hadith ya **أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** Omubaka **مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** yagamba nti;

"اتَّقُوا اللَّعَّانِينَ"

Mweewale ebintu bibiri ebikolimizisira, mweewale ebintu bibiri nga singa omuntu abeera abikoze oba nga akozeeko ekimu kubbyo akolimirwa.

Ani amukolimira?

اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, ne ba Malayika n'abantu bonna, bakolimira omuntu akoze ebintu bino ebibiri oba ekimu ku biriri.

Kati Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** agamba ba swahaaba be n'abakkiriza bonna okuba ntinno beewala ebintu bino ebibiri, ba swahaaba b'amubuuza nti: **"وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ!؟"**

Ebikolimizisira ebyo ebibiri by'ebiriwa owange ggwe Omubaka wa **اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** ?

N'agamba **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ nti: "الَّذِي يَخْتَلِي فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ"**

Omuntu yenna amalira ekyetaago mu kkubo abantu mwebayita, yenna amalira ekyetaago mu kkubo abantu lyebayitamu, **either** n'akojobawo oba n'amalirawo **حَاجَةٌ**[ekyetaago] ennene oba n'anyizaawo eminyira oba nassaawo ekikolondolwa, okuteekawo ekintu kyonna ekinakuwaza abantu singa babeera bakirabyeeko, **ekyo Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** yakigaana, yakiziyiza **era n'alaga nti omuntu akikola aliko ekikolimo, akolimirwa.**

N'agamba nti n'omuntu yenna amalira ekyetaago mu kifo abantu webafunira ekisiikirize, abantu webawummulira, webeggama omusana oba enkuba, gwe n'ova eri nojja n'omalirawo ekyetaago, abantu oja kuba oboononedde ekifo ekyo, teri n'omu agenda kutuukawo asangewo obukyaafu bwo asigale nga akyaayimiriddewo, ((أَبْدًا)), **tajja kuyimirirawo, nga waliwo obukyaafu bwo?!, teri n'omu agenda kusaangawo kikoloondolwaakyo oba minyira jo nga wajinyizizzaawo**

asigale nga akyaayimiridde awo, agenda ku kitamwa, kigenda ku munakuwaza, **kati Omubaka**

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ n'atugaana okumalira ekyeetaago mu makubo abantu mwebayita n'okumalira ekyeetaago mu bifo abantu mwebafunira ebisiikirize, oba mwebawummulira oba mwebeggamira omusana oba enkuba, n'ekifo kyonna nga muti, nga omuti ogwo guliko ebibala, oba muti gwa muyembe oba gwa o'vakkedo oba ppaapaali oba ekibala ekirala kyonna, tokkirizibwa kumalirawo kyeetaago, newankubadde nga abantu tebafunirawo kisiikirize, naye ate ekibala kisobola okuvaayo nekigwa, kati nga kkedo ng'oyo, bwaaba nga ayengedde yewanulayo waggulu ku muti n'agwa, laba bwaagwa n'atuukira mu bukyaafu bwo, omuntu n'agenda okujja okumulonda n'amusanga nga ali mu bukyaafu n'aba nga takyaamulidde, bweguba muyembe aba takyaagulidde, nebwaaba agukubisizza nkonyogo negugwa mu bukyaafu obwo aba takyaagulidde.

Kati ebifo ebifaanaganako bweebityo Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ yatugaana okubimaliramu ekyeetaago, **وَكَذَلِكَ** [na bweekityo ky'ekimu] **amazzi oba ekkubo amazzi mwegayitira Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** yatugaana okuba ntinno tumalirawo ekyeetaago.

Mu mbeera efaanaganako bw'etyo tufuundikira tugamba nti kiri **haram**, tekikirizibwa muntu kumalira kyeetaago ekyengeri yonna mu mazzi, **"الدَّائِمُ الَّذِي لَا يَجْرِي"**

سَوَاءً [ky'ekimu] ekyeetaago ekyo akimazeemu butereevu oba ekyeetaago ekyo akimalidde **bbali nga essaawa yonna ekyeetaago ekyo kisobola okuba ntinno kikulukuta nekigenda mu mazzi, mu mbeera yonna takkirizibwa kuba ntinno amalira kyeetaago mu mazzi yadde okumalira ekyeetaago emabbali w'oluzzi kubanga essaawa yonna mukoka agenda kukulukusa obukyaafu obwo okukkakkana nga buli mu mazzi.**

Omusulo bw'ogufuuyisa gusobola okukulukuta negugenda mu mazzi, ekyeetaago kimalire walala!, tokimalira kumpi na mazzi, tokimalira mu mazzi bantu gebeeyambisa, gebakozesa, era tokkirizibwa kuyiwamu mukojobo yadde empitambi yadde ekyeeninyaza ekirala kyonna mu mazzi,

tokkirizibwa ku kikola **بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ**, olwensonga nti ogenda kwonoonera abantu amazzi gaabwe, ekirala oyiinza n'okuviirako abantu okulwaala kubanga wastes ezo, ebintu ebiva mu mibiri j'abantu ebiseera ebisinga obunji bivaamu n'endwadde, **بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ وَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا**.

"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي".

Abamanyi baffe batugamba nti hadith eyo etulaga ntinno okuziyiza kweesigamidde ku kitendo Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** kyeyatenda nakyo amazzi, yagamba nt: **"الْمَاءُ الدَّائِمُ الَّذِي لَا يَجْرِي"**

Nekiba nga **kitegeezaaki?**, nti: **"الْمَاءُ الدَّائِمُ الَّذِي يَجْرِي"**

Amazzi agali mu kifo olubeerera nga gakulukuta ago ggo tukkirizibwa okugafuuyisaamu

Lwaaki?, kubanga **"مَاءٌ قَوِيٌّ"**, gabeera mazzi g'amaanyi, sikyangu nnyo bukyaafu kugakosa, bwekiba nga ddala osaanidde, oteekeddwa okuba ntinno ofuuyisa mu mazzi ago ekyo kkyo tekiyina mutawaana kubanga ago amazzi gabeera gakulukuta, w'ofuuyisiza obukyaafu bugenda kugenda immediately, **بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ**, **wabula** gano amazzi agali mu kifo olubeerera naye nga tegakulukuta ago ggo Omubaka **مُحَمَّدٌ ﷺ** yatuziyiza, **yatugaana okugafuuyisaamu, wabula gali singa omuntu abeera agafuuyisizzaamu abamanyi baffe رَحْمَهُمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى** bagamba nti ekyo kkyo tekiyina mutawaana, **وَبَارَكَ اللهُ فِيكُمْ**, wabula ssi kugamba ntinno omuntu akikole nga bw'asaanze, nedda!, kubanga tulabye nti Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** yatugaana okufuuyisa mu mazzi ag'engeri yonna, wabula singa omuntu yye abeera agafuuyisizzaamu tekibeera nnyo na mutawaana nga bw'anaafuuyisa ate mu gano amazzi agali mu kifo olubeerera naye nga tegakulukuta_.

Kitegeeza nti singa omuntu abeera afuuyisizza mu mazi g'omugga, amazzi nga ga mugga ekyo tekiyina nnyo mutawaana nga omuntu w'anaafuuyisa mu luzzi nga oluzzi olwo luyina ensulo naye terukulukusa mazzi, ekyo Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** yakigaana, naye ate kiri eky'okufuuyisa mu mazzi agakulukuta nga wegali ga kubeerawo lubeerera ekyo kkyo Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ**

tewali bujulizi ng'akigaana ﷺ, newankubadde nga nakyo tekiri recommended[tekikubirizibwa], wabula singa omuntu abeera akikoze mu mbeera eya n'akola ntya!, siyina kyakkola, ekyo tekiyina mutawaana بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

"لَا يُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ"

"ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ", abamanyi bagamba nti: "يَغْتَسِلُ" eyo tusobola okujiweerera mu mpeerera ssatu.

Empeerera esooka: "يَغْتَسِلُ" nga "ل" ya "ضَمَّة", "ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ".

Era mu mbeera efaanaganako bw'etyo nga "ل" tujifudde ya "ضَمَّة", "ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ", hadith eyo ebeera etegeeza nti omu mu mmwe tafuuyisaanga mu mazzi agali mu kifo olubeerera naye nga tegakulukuta kyokka nga ate oluvannyuma agenda kufuna obweetaavu bw'okuganaabamu, agenda kugafuuyisaamu, kyokka ate wayitewo akaseera afune obweetaavu bw'okunaaba mu mazzi ago naye nga ate mwennyini y'eyagafuuyisizzaamu!, atuuke okuba ntinno atamwa okuganaabamu naye nga ate y'eyagafuuyisizzaamu!.

Kati Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ yagamba nti: "tafuuyisanga omu mu mmwe mu mazzi agali mu kifo olubeerera nga tegakulukuta, kyokka nga ate oluvannyuma lw'akaseera agenda kufuna obweetaavu bw'okuganaabamu, awo nga "ل" yaffe tujifudde ya "ضَمَّة", "ثُمَّ هُوَ يَغْتَسِلُ فِيهِ", "طَيِّب".

Wabula ابْنُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى yalaga nti: "ل" eyo tusobola era okujiweerera n'empeerezi eya "سُكُونٌ", "ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ", nga "ل" ya "سُكُونٌ", "ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ".

"ل" wetujifuula eya "سُكُونٌ" kibeera kitegeeza nti: "يَغْتَسِلُ" eno egenda kutwaala obulamuzi bweebumu ne "يُولَنَ", amakulu nti ebintu bino byombi Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ abeera abaziyizza.

"لَا يُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي"

Omu mu mmwe tafuuyisanga mu mazzi agali mu kifo olubeerera nga tegakulukuta

"وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ"

Era taganaabangamu, n'eba nga "ل" wetujifuula eya "سُكُونٌ" Omubaka abeera atuziyizza ebintu bibiri, abeera atuziyizza okufuuyisa mu mazzi agali mu kifo olubeerera nga tegakulukuta, ekyookubiri nga Omubaka atuziyizza okunaaba mu mazzi ago, طَيِّبٌ, ekyo kigambo kya **أَبْنُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى**.

Era **أَبْنُ مَالِكٍ** y'omu n'agamba ntinno: "ل" yeemu eri ku kigambo: "يَغْتَسِلُ" tusobola okujifuula eya "فَتْحَةٌ", **ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ**, bwetutambulira kw'ekyo kiba kitegeeza ntinno byoombi biyina kubeerawo mu kiseera ky'ekimu, okuziyizibwa kubeera singa omuntu byoombi abikolera mu kaseera keekamu.

Ki kyentegeeza?!, Omubaka agamba nti: **"لَا يُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ"**

Amakulu nti singa obeera okozeeko kimu tekiyina mutawaana, singa oba ofuuyisizza bufuuyisa mu mazzi ago agali mu kifo olubeerera naye nga tegakulukuta tekiyina mutawaana, ate era singa oba onaabyemu manaabe era nakyo tekiyina mutawaana, wabula Nabbi kyeyaziyiza byoombi kubikola at the same time[mu kiseera ky'ekimu], n'oba nga amazzi ago ogalimu munda, oli mu kuganaabamu kyokka ate n'ogafuuyisaamu, awo nga "ل" tujifudde ya "فَتْحَةٌ", amazzi ogalimu oli kuganaabamu ate n'ogafuuyisaamu, wabula singa ogafuuyisaamu n'oba nga toli mu kuganaabamu tekiyina mutawaana nga "ل" tujifudde ya "فَتْحَةٌ", ate siinga oganaabamu n'otagafuuyisaamu era tekiyina mutawaana, nga "ل" tujifudde ya "فَتْحَةٌ" ..

"ل" wetujifuula eya "صَمَةٌ", hadith eyo ebeera etegeeza omu mu mmwe tafuuyisanga mu mazzi agali mu kifo olubeerera nga tegakulukuta ate nga oluvannyuma lw'ekiseera ageenda kufuna obweetaavu bw'okuganaabamu, kyokka ate "ل" wetujifuula eya "سُكُونٌ" ku kigambo "يَغْتَسِلُ", tuba tutegeeza

nti omu mu mmwe tafuuyisanga mu mazzi agali mu kifo olubeerera nga tegakulukuta era omu mu mmwe tanaabanga mu mazzi agali mu kifo olubeerera nga tegakulukuta, kyokka ate "ل" wetujifuula eya "فَتْحَةٌ" hadith ebeera etegeeza nti omu mu mmwe takojobanga mu mazzi agali mu kifo olubeerera nga tegakulukuta at the same time[kiseera ky'ekimu] nga ate ali mu kuganaabamu, eno ali mu kunaaba ate wafuuyisa mu ggo!.

Wabula Imaam ayitibwa رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، الْمَفْهُمُ " mu kitabo kye أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرْطُبِيِّ ntinno ekigambo kya ابْنُ مَالِكٍ ekyo ssi kituufu, "ل" eyo eyina kubeera ya "ضَمَّةٌ" yokka!, tekikirizibwa kujifuula ya "سُكُونٌ" n'ogamba nti: "ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ" oba "ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ", ate era tekikirizibwa kujifuula ya "فَتْحَةٌ", bwaatyو إِمَامُ الْقُرْطُبِيِّ mu kitabo kye "الْمَفْهُمُ" bw'agamba.

Naawa ensonga n'agaamba nti: hadith eyo nga bw'ojiwulidde erina hadith endala ejifaanana mu njatula, mu nsengeka y'ebigaambo, waliwo hadith endala ejifaanana, nga nayo ye hadith Omubaka محمد ﷺ nga agamba nti:

"لَا يَضُرُّنَّ أَحَدٌ مِنْ أُمَّرَاتِهِ ضَرْبَ الْأُمَّةِ"

Omu mu mmwe takubaanga mukyaalawe olukuba lwebakubamu omuzaana oba omuddu, omu mu mmwe takubaanga mukyaalawe olukuba lwebakubamu ente n'ebisolo ebisigadde oba omuzaana oba omuddu.

"ثُمَّ يَجَامِعُهَا"

Kyokka nga ate oluvannyuma agenda kubeera n'obwetaavu bw'okwegatta n'omukyaala oyo, omu mu mmwe tagezaako okukukba mukyaalawe olukuba lwebakubamu omuzaana oba omuddu oba ensolo, kyokka nga ate oluvannyuma lw'ekiseera agenda kufuna obweetaavu bw'okwegatta naye kyokka nga ate amaze okumunakuwaza!.

إِمَامُ الْقُرْطُبِيِّ agamba nti: "hadith eyo enseengeka yaayo efaanaganira ddala ne hadith eno egamba nti;

"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ" oba "مِنْهُ"

Teriiyo mumanyi n'omu yali annyonyodde hadith ya "ثُمَّ يَجَامِعُهَا" "ع" eyo n'ajifuula ya "سُكُونٌ" oba n'ajifuula ya "فَتْحَةٌ", n'agamba nti: "ثُمَّ يَجَامِعُهَا" oba "ثُمَّ يَجَامِعُهَا", teriiyo mumanyi n'omu eyali akyoogedde kyokka nga enseengeka ya hadith zino ebbiri efaanaganira ddala ((تَمَامًا)), completely.

Era ekigambo ekyo ne إِمَامُ أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفِ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى yakeegattako n'agamba ntinno "ل" eyo tetukkirizibwa kujifuula ya "فَتْحَةٌ" wabula ate singa tuba tujifudde ya "سُكُونٌ" ekyo kale kale, naye okujifuula eya "فَتْحَةٌ" tekikkirizibwa, إِمَامُ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ye ate bwaatyo bw'agamba, yye agamba nti: "ل" eyina kubeera ya "صَمَّةٌ", tokkirizibwa tujiteekako "فَتْحَةٌ", kale wooba nga ojitaddeko "سُكُونٌ" ekyo kiri yadde yadde ko, naye okujiteekako "فَتْحَةٌ" ekyo tekikkirizibwa, طَيِّبٌ.

Tugamba nti ekigambo ekituufu ky'ekigambo;

❖ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرْطُبِيِّ ky'aliko

❖ Ne إِمَامُ أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفِ النَّوَوِيِّ

Wabula ekigambo kya أَبُو مَالِكٍ waliwo رَوَايَاتُ [Amakubo hadith mwezayitira] endala eza hadith eno ezikijulira eky'okuba ntinno;

"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ"

Nga "ل" ya "سُكُونٌ", omu mu mmwe tafuuyisanga mu mazzi agali mu kifo olubeerera nga tegakulukuta ate era omu mu mmwe tanaabanga mu mazzi ago agali mu kifo olubeerera nga tegakulukuta, Omubaka naaba nga aziyizza bibiri, waliyo رَوَايَةٌ [Ekkubo eddala hadith

mweyayitira] endala eraga ekyo, nga naye ye **رَوَايَةٌ[Ekkubo eddala hadith mweyayitira]** eri mu **سُنُّ أَبِي دَاوُدَ** Omubaka **محمد ﷺ** yagamba;

"لَا يُؤَلَّنُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ"

Omu mu mmwe tafuuyisa nga mu mazzi agali mu kifo olubeerera nga tegakulukuta,

"وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ"

Era amazzi ago tagezaanga n'aganaabamu janaba

Mu **رَوَايَةٌ[Ekkubo eddala hadith mweyayitira]** eyo Omubaka n'aba nga abaiziyizizza byoombi, eky'okugafuuyisaamu ate n'atuziyiza n'ekyokuganaabamu, oyinza okugafuuyisaamu n'otaganaabamu ate era osobola okuganaabamu n'otagafuuyisaamu, byoombi yabigaana, **either** ofuuyisizaamu mafuuyisa n'otaganaabamu, ekyo Nabbi yakigaana!, oba onaabyemu manaabe janaba n'otagafuuyisaamu, n'ekyo Nabbi yakigaana mu **رَوَايَةٌ[Ekkubo eddala hadith mweyayitira]** eyo, eyo **رَوَايَةٌ[Ekkubo eddala hadith mweyayitira]** n'eba nga ekwaatagana n'ekigambo kya **طَيْبٌ, "سُكُونٌ"** ya "ل" tujifudde ya **أَبْنُ إِمَامٍ مَالِكٍ**.

Kyokka ate era Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** mu **رَوَايَةٌ[Ekkubo eddala hadith mweyayitira]** endala eya hadith eyo yatugaana okuganaabamu;

Yagamba nti: **"لَا يَغْتَسِلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنْبٌ"**

Omu mu mmwe tanaaba nga mu mazzi agali mu kifo olubeerera

وَهُوَ جُنْبٌ"

Nga ate ayina janaba

Kati **رَوَايَةٌ[Ekkubo eddala hadith mweyayitira]** eno n'eba nga ekwaataganye n'ekigambo kya **إِمَامُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ** nga "ل" tujifudde ya **"فَتْحَةٌ"** wabula ekyo tekwaatagana nakyo **mu bujjuvu,**

Iwaaki?, kubanga "ل" wetujifuula eya "فَتْحَةٌ" ono tafuuyisizza mu mazzi, anaabyemu manaabe naye nga ate ayina janaba, tagafuuyisizaamu, بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ, kansuubire nti ekyo kitegeerese bulunji, okumanya ekyo kigasa nnyo abawalimu_.

WALIYO A ((مَسْأَلَةٌ)) AGASIGADDEYO MATONOTONO KU HADITH ENO

"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يُجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ"

"ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ" nga "فِيهِ" [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] ya بُخَارِي kitegeeza kwennyika mu mazzi, omu mu mmwe tafuuyisanga mu mazzi agali mu kifo olubeerera naye nga ate tegakulukuta, "ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ"

Oluvannyuma nga ate agenda kuganaabamu.

Amakulu agenda kugennyikamu, "فِيهِ", go gennyini g'agenda okunaabiramu nga abantu webennyika mu swimming pool n'ebidiba nennyanja n'ebisigadde, n'agennyikamu bwaati nga mukugennyikamu bwaatyoga nga kwe kunaaba.

Sso nga ate [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] ya مُسْلِمٌ "ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ" eyo yyo etegeeza kusenamu, omuntu n'amala okufuuyisa mu mazzi, ate oluvannyuma lw'okugafuuyisaamu nakwaata ekyombo oba kadomola oba bbaafu oba anything[ekintu kyonna] nalyooka asena mu mazzi ago, "مِنْهُ", n'alyooka asena amazzi mu luzzi olwo n'agenda anaabe. Kati eno "ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ" eri kw'ono afuuyisa mu mazzi nga ate oluvannyuma agenda kuganaabamu, go kennyini nga g'agenda okunaabiramu, ate eri yyo eya مُسْلِمٌ eya "مِنْهُ", "ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ", yyo eri kw'ono afuuyisizza mu mazzi ago nga ate oluvannyuma agenda kusenako agende anaabe, ekigambo ekyo yatugasa nakyoo Sheikh waffe عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيِّ حَفِظَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

Mu mbeera zombi سَوَاءٌ [ky'ekimu] amazzi ogenda kuganaabiramu go gennyini oba ogenda kusenamu busenyi ogende onaabire ewaka oba ewantu ewalala wonna, tokkirizibwwa kufuuyisa

mu mazzi ago nga ate oluvannyuma ogenda kuganaabamu oba ogenda kutoolako g'onanaabisa ewaka, - طيب.

Mu hadith eyo, mu **رواية** [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] eyo Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** atugaanye okufuuyisa mu mazzi, era nsuibira nti a ((مسائل)) gonna agali connected [agalina akakwaate] ne hadith eyo ggo gaweddeyo, **بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ**.

WASIGADDEYO ((رواية)) BBIRI.

سنن أبي داود **((رواية))** ne **((رواية))** esooka: "لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنْبٌ" **((رواية))**

"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ"

Kati kano ka paati akasooka ku **رواية** [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] ya سنن أبي داود kko tukamaze, tusigazizzaayo "و لَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ" ne **رواية** [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] eri mu **مُسْلِمٌ**: "لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنْبٌ".

Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** mu **رواية** [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] ezo atugaanye okunaabira mu mazzi agali mu kifo olubeerera nga tegakulukuta nga tuganaabiramu janaba

"لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنْبٌ"

Omu mu mmwe tanaabiranga mu mazzi agali mu kifo olubeerera nga tegakulukuta, nga

anaabiramu janaba, nga ayina janaba.

رواية "وهو جنب" oba "جنابة" abamanyi b'ayawukana mu **مصدر** [ensibuko] yaakyo.

Abamanyi abamu;

❖ Abamanyi b'olulimi bagamba nti: "الجنابة" مصدر [ensibuko] yaakyo "الجنب", "جنب"

kitegeeza ekintu ekikuli mu sides, ekikuli okumpi nga kikuli mabbali either this side oba

this side naye nga kikuli kumpi, kyebayita "الجنب".

Kati bagamba nti: "جَنَابَةٌ" oba "جَنْبٌ" kiva mu kigamba "الجَنْبُ", ekintu ekikuli okumpi, lwaaki?, olwensonga nti omuntu janaba enfuna j'agifunamu ⁽¹⁾عَالِيًا ajifuna mu mbeera y'akuba ntinno abeera kumpi ne mukyaala we oba omwaami we, abeera kumpi ne mukyaala we, bebeera kumpi okufuuna janaba, bebeera kumpi y'ensonga lwaaki ntiino ekigambo ekyo kiva mu kintu ekiri okumpi, "مِنَ الْجَنْبِ", mu kintu ekiri okumpi, kubanga omuntu janaba ajifuna luvannyuma lwa kuba nti yye ne mukyaala we beeri kumpi oba yye n'omwaami we beeri kumpi , بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ .

- ❖ Sso nga ate abamanyi abalala bagamba nti: "الجَنَابَةُ" kiva "مِنَ الْمُجَانِبَةِ", ky'ekintu ekiri ewala ekikweesambye, ekintu nga kiri wala nga kikweesambye, "المُجَانِبَةُ".

Nga bw'olaba اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, agamba nti;

﴿... وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ...﴾ سورة النساء [36]

Ne mulirwaanaawo nga omuyinako oluganda, ﴿... وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ...﴾

Ye mulirwaanaawo nga oyina bw'omuyita, omulinako oluganda

﴿... وَالْجَارِ الْجُنُبِ...﴾ سورة النساء [36]

Ye mulirwaanaawo naye nga tomuyinaako luganda, w'ewala naawe toyina bw'omuyita ssi wa luganda lwo, tomuyinaako luganda, ye "الْجَارُ الْجُنُبِ".

Kati mu mbeera eyo nekiba nga kitegeeza ekintu ekiri ewala.

اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى mu سُورَةُ الْقَصَصِ yagamba nti;

﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ سورة القصص [11]

1. Ebiseera ebisinga

Maama wa مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ bw'amala okuteeka مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ mu kisero nga
اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى bweyali amulagidde n'amuteeka ku mugga, omugga ogwo negutandika okukulukusa
ekisero ekyo مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ mwaali.

Maama مُوسَى yagamba mwannyina wa مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ nti;

﴿...قُصِيهِ...﴾

Goberera, londoola ekisero ekyo jekiraga, genda olondoole ekisero ekirimu mwannyinyoko olabe

wwa jekiraga okigoberere mpaka jekinaalaga , "قُصِيهِ"

﴿...فَبَصَّرَتْ بِهِ...﴾

Mwannyina wa مُوسَى ono abamanyi b'ayawukana mu mannya ge;

- ❖ Abamu bagamba nti ye كَلْتُمُ بِنْتُ عِمْرَانَ .
- ❖ Ate abalala bagamba nti ye مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ era nga ekyo ky'ekigambo kya إِمَامُ الْبَغْوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى nga bwekiri mu tafsir ye.
- ❖ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ky'ekigambo kye, newankubadde nga yye alaga nti ono إِمَامُ قُرْطُبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ b'afaanaganya bafaanaganya linnya ne Maama wa عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ kubanga ne Maama wa عِيسَى baali bamuyita مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ .

Kati erinnya lya mwannyina wa مُوسَى neriba nga ly'afaanagana n'erinnya lya Maama wa عِيسَى naye nga ssi muntu omu!, Maama wa عِيسَى ssi ye mwannyina wa مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ newankubadde nga amannya gafaanagana, ekyo ky'ekigambo kya إِمَامُ قُرْطُبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ mu tafsir ye, mujja kugenda mukyetegereze.

Yagamba nti mwannyina wa مُوسَى ye مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ naye ssi Maama wa عِيسَى, b'afaanagana bafaanagani linnya, kyokka ate yye إِمَامُ الْبَغْوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ yye agamba nti Maama wa عِيسَى ye mwannyina wa مُوسَى nga yeseembesa Ayah eri mu Surat Mariam;

﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴾ سورة مريم [28]

مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ono ayogerwaako muganda wa هَارُونُ

﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ... ﴾ سورة مريم [28] nti: مريمُ Bino ebigambo babigamba ani?, babigamba

"Owange ggwe mwannyina wa هَارُونُ"

Kati yye إِمَامُ التَّعَالِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى mu bamanyi ba tafsiri n'abamanyi abalala nga إِمَامُ البَغَوِيِّ yye bbo nebavaayo nebagamba ntinno oyo مَرِيْمٌ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ mwannyina wa مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ate era ye Maama wa عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ sso nga ate yye إِمَامُ القُرْطُبِيِّ yagamba bafaanagana bafaananyi mannya naye nga ssi muntu omu, Allah y'asinga okumanya, kyokka ate newabeerayo n'abamanyi abalala wemba sserabidde nga إِمَامُ الرَّازِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

neyesembesa hadith ya مَرِيْمٌ oyo ye كَثُومٌ ((مِنَ الْمَفْسِّرِينَ)) yye agamba nti mwannyina wa عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا bwetunaayingira mu tafsiri tuyinza okuwaanvuwa, بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ.

Allah agamba: المِهْمُ⁽¹⁾

﴿...قَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِيهِ...﴾ سورة القصص [11]

Maama wa مُوسَى agamba mwannyina wa مُوسَى nti londoola ekisero mwentadde mwannyoko, mulondoole, londoola ekisero ekyo.

﴿...فَبَصَّرْتَهُ بِهِ...﴾ سورة القصص [11]

N'aba nga atambulira ku kisero ekyo, amaasoge n'agatambuliza ku kisero ekyo.

﴿...عَنْ جَنِّبٍ...﴾ سورة القصص [11]

Wabula "عَنْ بَعْدٍ" nga إِمَامُ الْبَغَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ bw'agamba, إِمَامُ ابْنِ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ bw'agamba, إِمَامُ ابْنِ جَرِيرِ الطَّبْرِيِّ ky'ekigambo kye رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, إِمَامُ الْقُرْطُبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ n'abalala ekyo ky'ekigambo kyaabwe, "عَنْ بَعْدٍ", yamutambulizaako amaaso wabula nga amuli distance, teyali kumpi naye, yali distance.

﴿... وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ...﴾ سورة القصص [11]

Bano abaali bamuyina ab'amujja ku nnyanja, ﴿... وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ...﴾,

Tebaasobola;

- ❖ **Ekiisooka:** kutegeera nti ono mwannyina w'ono ali mu kisero, ono gwetulaba wano ye mwannyina w'ono ali mu kisero.
- ❖ **Ekyookubiri:** tebaasobola na kumulaba na kumanya nti waliwo abatambulirako,

﴿... وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ...﴾

Kubanga yabali distance, yali aliko walako.

Kati ekigambo "جَنَّبُ" abamanyi abalala nebagamba ntinno kitegeeza ekintu ekiri ewala era janaba kifuna amakulu ago nti omuntu singa abeera mu state[embeera] eyo ey'okuba nti ayina janaba takkirizibwa kusaala yadde okukola omulimu omulala gwonna ogumugaanibwa okukola okujjako nga mutukuvu nga okwetooloola Kaaba n'ebisigadde.

Omuntu ono afunye janaba abeera wala, abeera yesambye esswalah n'emirimu emirala ejimwetaagisa okukola nga mutukuvu mpaka nga amaze okweetukuza yensonga lwaaki ntinno ekyo kiyitibwa "الْجَنَابَةُ", kubanga kyeesaambya nannyini kyo okuva eri esswalah, ate abamanyi abalala nebagamba ntinno: "الْجَنَابَةُ مِنَ الْجَنَّبِ", kubanga omuntu janaba okujifuna ayina kuba nga ali kumpi ne mukyaala we.

Kati Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ agamba nti;

"لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ"

Omu mu mmwe tanaaba nga mu mazzi agali mu kifo olubeerera,

"وَهُوَ جُنُبٌ", nga ate ayina janaba, طَيِّبٌ.

Katulabe a ((مَسْأَلَةٌ)) agali mu hadith eyo, ggo matonotono بِإِذْنِ اللَّهِ.

A ((مَسْأَلَةٌ)) AGASOOKA.

Singa omuntu afuuyisa mu mazzi, abantu abalala bakkirizibwa bbo okunaabisa amazzi ago n'okugafunisa obuwuzu oba nabo baba tebakkirizibwa?.

Okwaanukula nti: abama nyi b'ayawukana ku nsonga eyo_.

Abamanyi abasinga obunji bali ku kigambo ekigamba nti amazzi ago ono abeera agafuuyisizzaamu akkirizibwa okugakozesa n'abantu abalala bakkirizibwa okugakozesa kasita gaba nga gakyaali mazzi matukuvu tegakuyusizza langi, mpunya yadde mpooma_.

Abamanyi abamu, ba مَالِكِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno] bagamba ntinno kasita amazzi ago gaba nga tegannakuyusa langi yadde mpunya yadde mpooma, omuntu ono akkirizibwa okuba ntinno agakozesa n'abantu abalala bakkirizibwa okuba ntinno bagakozesa kubanga gaba gakyaali mazzi matukuvu, newankubadde nga ono agafuuyisizzaamu asigaza omusango gwe ogw'okuba ntinno afuuyisizza mu mazzi Nabbi geyamugaana okufuuyisaamu, naye eky'okugakozesa akkirizibwa okuba ntinno agakozesa n'abantu abasigadde, ebbanga lyegamala nga gakyaali matukuvu tegakuyusizza langi, mpunya yadde mpooma nga ba مَالِكِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno] bwebagamba.

Sso nga ate bbo ba **شَافِعِيَّةُ**[Abagoberera endaba ya Imaam Shaafiع ku nsonga eno] neba **حَنَابِلَةُ**[Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno] bagamba ntinno: "amazzi ago bwegaba nga gabadde gali mu ((قَلَّةٌ)) bbiri n'okudda waggulu, nga obunji bwaago gabadde mu ((قَلَّةٌ)) bbiri n'okudda waggulu gaba gakyaali mazzi matukuvu era ono agafuuyisizzaamu akkirizibwa okuba ntinno agakozesa n'abantu abasigadde naye yye asigaza omusango gwe ogw'okuba ntinno afuuyisizza mu mazzi nga ate Nabbi yamugaana.

Wabula wegaba nga gali wansi wa ((قَلَّةٌ)) bbiri, nga tegaziweza ((قَلَّةٌ)) bbiri, ba **حَنَابِلَةُ**[Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno] neba **شَافِعِيَّةُ**[Abagoberera endaba ya Imaam Shaafiع ku nsonga eno] bagamba nti amazzi ago gaba gakyaafuwadde, takkirizibwa kugakozesa n'abantu abalala mu mbeera eyo baba tebakkirizibwa kugakozesa kubanga gaba gakyaafuwadde, طَيِّب.

Bbo ba **حَنَفِيَّةُ**[Abagoberera endaba ya Imaam Abu haniifah ku nsonga eno] bagamba nti: "amazzi ago omuntu takkirizibwa kugakozesa ono agafuuyisizzaamu, yye mwennyini takkirizibwa kugakozesa n'abantu abalala tebakkirizibwa kugakozesa, gaba gakyaafuwadde, ago amazzi gaba gakyaafuwadde, takkirizibwa kugakozesa n'abantu abalala tebakkirizibwa kugakozesa".

Ba **ظَاهِرِيَّةُ**[Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] nga **إِمَامُ ابْنِ حَزْمٍ** y'abakulembede_ bbo bagamba nti: "ono afuuyisizza mu mazzi yye takkirizibwa kugakozesa naye bbo abantu abalala bakkirizibwa okuba ntinno bagakozesa", _naye ba **ظَاهِرِيَّةُ**[Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] basesa!, **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ!**," ono agafuuyisizzaamu takkirizibwa kugakozesa naye ate bbo abantu abalala bakkirizibwa okugakozesa!," wabula singa abeera tafuuyisizzaamu mu mazzi butereevu, ba **ظَاهِرِيَّةُ**[Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] beebagamba!, nga yafuuyisizza mu bbaafu, bbaketi oba ekyombo ekirala kyonna, omukojobo

n'aguyiwa buyiyi mu mazzi, tafuuyisizzaamu butereevu!, oba okuba ntinno afuuyisizza bbali omusulo negukulukuta negugenda mu mazzi, oba okuba ntinno amazeemu **حَاجَةٌ** [Ekyetaago] nnene, akozeemu ppupu, amazzi gano negatakyuusa langi yadde mpunya yadde mpooma, ba **ظَاهِرِيَّة** [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] bagamba ntinno yye mwennyini akkirizibwa okugakozesa n'abantu abalala.

Ddi lw'attakirizibwa kugakozesa yye nga ate abalala bakkirizibwa okugakozesa?

Singa abeera agafuseemu butereevu, yye takkirizibwa kugakozesa naye ate abalala bakkirizibwa, wabula singa abeera afuuyisizza bbali waaluzzi omusulo negukulukuta bukulukusi negugenda mu mazzi, oba nga yafuse mu kyombo n'ayiwamu muyiwe mu mazzi, oba nga amazeemu **حَاجَةٌ** [Ekyetaago] ennene, ataddemu ppupu, mu mbeera efaanaganako bw'etyo kasita amazzi tegakyuusa langi, mpunnya yadde empooma, yye akkirizibwa okugakozesa n'abantu abalala.

By'ebigambo bina(4) ebiri mu ((مَسْأَلَةٌ));

Ekisooka ba **مَالِكِيَّة** [Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno] bagamba amazzi ago ono akkirizibwa okugakozesa n'abantu abalala kasita gaba nga tegakyuusizza langi yadde empunya yadde empooma, wabula wegaba nga gakyuusizza e'langi, empunya n'empooma oluvannyuma lw'ono okugafuuyisaamu, bonna tebakkirizibwa kugakozesa kubanga gaba gakyaafuwadde ate wali bakkirizibwa okugakozesa nga tegakyuusizza kitendo mu bitendo byaago kubanga gakyaali matukuvu.

Sso nga ate bbo ba **حَنَابِلِيَّة** [Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno] neba **شَافِعِيَّة** [Abagoberera endaba ya Imaam Shaafi' ku nsonga eno] bagamba nti amazzi ago bwegaba nga gabadde gaweza ((قَلَّة)) bbiri, kubanga bali ku hadith ya **ابن عمر**, bwegaba nga gabadde gaweza ((قَلَّة)) bbiri n'okudda waggulu ono agafuuyisizzaamu akkirizibwa okugakozesa

kuba gakyaaali matukuvu, mazzi mangi, akkirizibwa okugakozesa n’abantu abalala, wabula wegaba nga gabadde wansi wa ((قَلَّةٌ)) bbiri newegaba tegakyuusizza langi yadde empunya yadde empooma yye mwennyini takkirizibwa kugakozesa n’abantu abalala, awo gaba gakyaaafuwadde.

Ba حَنْفِيَّةٌ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu haniifah ku nsonga eno] bbo nebagamba nti amazzi kasita agafuuyisamu newegaba tegakyuusizza langi yadde empunya yadde empooma takkirizibwa kugakozesa n’abantu abalala tebakkirizibwa kugakozesa nebwegaba nga gabadde gasukka mu ((قَلَّةٌ)) ebbiri .

Ba ظَاهِرِيَّةٌ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] nebavaayo nebagamba nti_ ono agafuuyisizzaamu y’abonerezebwa, y’atakkirizibwa kugakozesa, naye bbo abantu abasigadde abatafuuyisizza mu mazzi bbo bakkirizibwa okugakozesa, okujjako singa abeera afuuyisizza bbali omusulo negukulukuta bukulukusi negugenda mu mazzi oba nga agufuuyisizza mu kyombo n’ayiwamu muyiwe oba naaba nga ataddemu ppupu, tafuuyisizzaamu bufuuyisa, mu mbeera efaanaganako bweetyo kasita amazzi gaba nga tegakyuusizza langi yadde empunya yadde empooma akkirizibwa okugakozesa yye n’abantu abalala.

Ekigambo ekituufu kyeekiriwa?_.

- ❖ Ekigambo ekituufu Ky’ekigambo ky’aba مَالِكِيَّةٌ [Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno].

OBUJULIZI NAMBA EMU

Amazzi gasigala matukuvu olwa hadith ya أَيُّ أُمَّةٍ الْبَاهِلِيُّ, Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ agamba nti;

إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجَسَّهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ"

Mu رَوَايَةٌ [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] yagamba Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ nti;

إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ إِلَّا أَنْ تَغْيِرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ"

Kati ono afuuyisizzaamu, yes!, naye ate amazzi gasigadde ku langi yaago, empunya yaago ne mpooma yaago, gasigadde mazzi matukuvu era agasobola n'okutukuza ekintu ekirala, akkirizibwa okwetukuza nago, n'abantu abalala bakkirizibwa okwetukuza nago newankubadde nga yye asigaza omusango gw'okuba ntinno afuuyisizza mu mazzi nga ate Nabbi yakigaana...

OBUJULIZI NAMBA BBIRI

Hadith ya **أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ**, oluzzi luno Nabbi lweyali ali mukufunamu obuwuzu mwaalimu ebikyaafu nga fenna bwetukimanyi obulungi, naye ate Nabbi n'asangibwa nga ali mu kufuna wuzu kyokka nga ate fenna tukimanyi bulunji nnyo nti oluzzi lwa **"بُضَاعَةٌ"** terukulukuta nga **إِمَامُ أَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيِّ** bwaatulaga mu **سُنُنُ** ye, oluzzi lwa **"بُضَاعَةٌ"** terukulukuta, amazzi gaalwo weegali, **بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ**, naye terukulukuta, kyokka ate Nabbi **ﷺ** baamusanga nga asitamye **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** ali mu kufunisa mazzi ga luzzi olwo buwuzu.

Sso_ omuntu ono afuuyisizza mu mazzi, amazzi ago ebbaanga lyegamala nga tegakyuusizza kitendo mu bitendo byaago, gasigala mazzi matukuvu, akkirizibwa okweetukuza nago n'abantu abalala bakkirizibwa okwetukuza nago newankubadde nga yye asigaza omusango gw'okuba ntinno afuuyisizza mu amazzi.

Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** okutugaana okunaaba mu mazzi ago janaba, n'ogennyikamu n'onaabiramu janaba, abaffe singa janaba eyo ssi jemba nnina, nga nnina **حَيْضُ** [Omusaayi gw'ensonga z'abakyaala], ndi mukyaala, oba nnina **نَفَاسُ** [Omusaayi ogufuluma oluvannyuma lw'okuzaala], ngenda kwetukuliza mu mazzi ago agali mu kifo olubeerera naye nga tegakulukuta, mwenjagala nze omukyaala okunaabira **حَيْضُ** [Omusaayi gw'ensonga z'abakyaala] yange, nennyike mu, nveemu nga ntukudde okuva eri

حَيْضُ [Omusaayi gw'ensonga z'abakyaala], oba njagala mwemba nennyika, nveemu nga ntukudde okuva eri نَفَاسُ [Omusaayi ogufuluma oluvannyuma lw'okuzaala], ssi janaba, abaffe ekyo kkyo kiri kitya?, ky'eyawulidde janaba yokka, nga okuziyizibwa kweyawulidde agenda kwennyika mu mazzi ago lwa janaba yekka oba kuziingiramu nabano abagenda okwetukuza mu netukuza endala?.

Okwaanukula nti: kiziingiramu bonna, owa جَنَابَةٌ [janaba], owa حَيْضُ [Omusaayi gw'ensonga z'abakyaala] n'owa نَفَاسُ [Omusaayi ogufuluma oluvannyuma lw'okuzaala], okuziyiza okwo kubazingiramu bonna, owa janaba, owa حَيْضُ [Omusaayi gw'ensonga z'abakyaala] n'owa نَفَاسُ [Omusaayi ogufuluma oluvannyuma lw'okuzaala], bonna tebakkirizibwa kuba ntinno bennyika mu mazzi agali "رَاكِدٌ" oba agali "دَائِمٌ" naye nga tegakulukuta, Iwaaki?, olwensonga ntinno omuntu oyo bw'anennyika mu mazzi ago agenda kuba ayonoonedde abantu amazzi gaabwe, oli bwanaamusanga nga yebbiseemu mu luzzi nga abadde azze kukima mazzi ku luzzi olwo, ayinza okutamwa okukima amazzi mu luzzi olwo, abantu abamu bayina endwadde z'olususu, abantu abamu bayina skin diseases [Endwadde z'olususu] nga singa anennyika mu mazzi ayinza okuviirako abantu abalala okukosebwa abagenda okukozesa amazzi ago, kale y'ensonga Iwaaki nti Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ atugaana okuba ntinno twennyika mu mazzi ago.

Kati ekyo kikola ku muntu agenda okwennyikamu olwa janaba ne kikola ne ku muntu agenda okwennyikamu olwa حَيْضُ [Omusaayi gw'ensonga z'abakyaala] oba نَفَاسُ [Omusaayi ogufuluma oluvannyuma lw'okuzaala].

Abaffe singa omuntu aba agenda kwennyika mu mazzi nga tagenda kwetukuza kuva eri ekizuusi wabula nga yetukuza olutukuza olw'etteeka, مَثَلًا [kino ky'akulabirako], kati nga omuntu nga tutambulidde ku kigambo ekigamba nti okunaaba ku lunaku olwe jjuma kyaabwa tteeka, omuntu neyennyika mu mazzi n'aba nga mwanaabidde mu mazzi ago

olunaaba lwe juma nga tutambulidde ku kigambo ekigamba nti kyaabwa tteeka okunaaba ku lunaku lwe juma newankubadde nga ssi ky'ekigambo ekituufu mu ((مَسْأَلَةٌ)) nga bwetujja okulaba, naye wetuba nga tutaambulidde ku kigambo ekyo, nti okunaaba ku lunaku olwe juma kyaabwa tteeka oli n'asalawo yennyike bwennyisi mu mazzi ago ng'okunaabakwe, oba nga tutambulidde ku kigambo ekigamba nti omuntu ava okunaaza mayiti kyaabwa tteeka okuba nti anaaba, nga tutambulidde ku kigambo ekyo, okunaaba nga omuntu ava kuziika nti kyaabwa tteeka, tujja kuba tubiraba بِإِذْنِ اللَّهِ, abaffe neyennyika mu mazzi ago anaabire mu mazzi ago olunaaba olwo, n'amala n'avaamu, ekyo kiri kitya?.

Okwaanukula nti: nakyo tekikirizibwa newankubadde nga eriyo abamanyi abamu abalaba nti kikirizibwa nga ba ظَاهِرِيَّةً [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno] n'abalala, naye ekigambo ekituufu nti tekikirizibwa kukola ekyo olwensonga nti (1) عَلَةٌ esigala y'emu, ogenda kwonoonera abantu amazzi gaabwe.

Ate singa omuntu abeera agenda kunaaba olunaaba oluli (2) مُسْتَحَبٌّ, nga okuba nti agenda kunaaba lunaaba lwa idd oba agenda kunaaba lunaaba lwa juma nga tutambulidde ku kigambo ky'okuba nti okunaaba ku lunaku lwe juma kiri sunnah oba agenda kunaaba lunaaba lwa kukwaatagana kwa njuba na mweezi, (3) وَهَكَذَا.

Omuntu nga agenda kunaabiramu olunaaba olwa sunnah n'omuntu nga agenda kunaabiramu lunaaba lwa kwennyogoza, abo nabo abamanyi b'ayawukana ku nsonga yaabwe, abamu nga bagamba nti abo bbo **bakkirizibwa** tekiyina mutawaana, ky'ekigambo ky'aba ظَاهِرِيَّةً [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne Ibn hazmi ku nsonga eno], ate abamanyi abalala nebagamba nti nedda n'abo nabo tebakkirizibwa kukola ekyo olwensonga nti ((عَلَةٌ)) esigala y'emu, bagenda kwonoonera abantu amazzi gaabwe, ate abamu bayinza n'okuba nga bayina endwaade z'olususu.

1. Ensonga 2. Sunnah 3. N'ebirala ebiringa ebyo.

nga bwetw'akyoogette nga kiyinza okuviirako abantu abalala okukosebwa ate nga Nabbi yagamba nti: **طَيِّب, "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"**.

Singa omuntu abeera azze ebbali w'oluzzi nanaabako ekitundu okuva eno waggulu ppaka wano wakati, nanaabawo janaba, kubanga fenna tukimanyi bulungi nnyo tujja kuba tukiraba nga tutuuse mu kufuna wuzu n'okunaaba janaba n'ebisigadde, nti omuntu, ebiyungo bya wuzu,

"أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ لَا تَنْجِزُ"

Omuntu bwaaba nga abadde ali mu kufuna wuzu, bw'afunisaako e ffeesi, ffeesi eyo tekitegeeza nti kaakati yyo ebeera etukudde_.

"أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ لَا تَنْجِزُ"

Wuzu, okukakasa nti kati otukudde era okkirizibwa okuba ntinno oyimirizaawo esswala n'ebintu ebirala, oyina wuzu kumaliriza kigere kino ekya kkono, kasita omala okukinaaba olwo ebiyungo byonna byooba onaabye bibeera bitukudde.

Wabula ebbanga ly'omala nga tonnaba kunaaba kugulu kuno okwa kkono, ebiyungo byonna by'onaabye tebinnaba kutukula mpaka nga wuzu omaze kugimalirizaayo, olwo ebiyungo byonna ebisigadde nebiryooka bibalibwa nti olwo bitukudde, ekyo kiri ku wuzu, wabula waliyo abamanyi abamu abeseembesa hadith Omubaka **محمد ﷺ** nga agamba nti: **"إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ"**

Nti omuntu w'anaaba ekyeenyi kye

"خَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ"

Amazambi geyakozesezza ffeesi ye gonna gagenda kufuluma gave ku ffeesi eyo nga gavaako n'amazzi ago ganaabisizza ffeesi oba ettondo erisembeddeyo ddala okuva ku kyeenyi kye nga abadde ali mu kunaaba ffeesi.

Nebesembesa hadith eyo okulaga nti omuntu buli kiyungo ky'anaaba nga afuna e'wuzu, bino byonna tujja kubiraba mu maaso eyo newankubadde nga nnyina kyenjagala okuyisaawo.

Omuntu bw'anaaba ffeesi yyo ebeera etukudde olwa hadith eyo, Omubaka agambye nti omuntu bw'anaaba ffeesi amazambi geyakozesezza ffeesi ye gonna **اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** nga agamujjako n'atasigaza zzambi lyonna mu mazambi geyakozesezza ffeesi ye, bwekiba nga obukyaafu bw'amazambi bumuvaako bwanaaba ffeesi kiba **kitegeeza nti n'obukyaafu bw'ekizuusi bubeera bumuvuddeko bwanaaba ffeesi**, then bw'anaaba n'omukono nga era obukyaafu bugenda, bw'anaaba n'omulala, **((وَوَهَّكَا))**, nebesembesa hadith eyo okulaga ntinno ebiyungo bya wuzu bw'onaaba ekiyungo kkyo kiba kitukudde, bw'onaaba ekirala nakyo kiba kitukudde then bw'onaaba ekiddako nakyo kiba kitukudde **((وَوَهَّكَا))**, **wabula ekigambo ekyo ssi kituufu nga bwetujsa okulaba** **يَاذَنِ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى**

"أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ لَا تَتَجَزَّءُ"

Kyokka ate: "أَعْضَاءُ الْغُسْلِ"

Ebiyungo by'okunaaba janaba oba **حَيْضُ**[Omusaayi gw'ensonga z'abakyaala] oba **نَفَاسُ**[Omusaayi ogufuluma oluvannyuma lw'okuzaala] bbyo **"تَجَزَّءُ"**

Mu mbeera nti bw'onaaba omutwe, -obadde oli kunaaba janaba oba **حَيْضُ**[Omusaayi gw'ensonga z'abakyaala] oba **نَفَاسُ**[Omusaayi ogufuluma oluvannyuma lw'okuzaala]- bw'onaaba omutwe ggwo gubalibwa nti gutukudde, ebiyungo ebisigadde bbyo bisigaza obukyaafu naye ggwo omutwe bw'ogunaaba gubalibwa nti gutukudde, **وَكَذَلِكَ**[kyeekimu] bw'onaaba side eno ebalibwa nti yyo etukudde okuva eri janaba nga janaba esigadde side emu, ekyo ky'ekigambo

وَاللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْلَىٰ وَأَعْلَمُ, abamanyi abasinga obunji, **((جُمُورُ))**, kya

Tudde ku nosnga, eyo just nekoonyeeyo bwekoonyi okusobola okuyisaawo kino, singa omuntu anaaba okuva ku mutwe mpaka wano wakati janaba, ebyo ebiyungo byonna ebiri waggulu awo w'anaabye bibeera bbyo bitukudde, **wabula** okuva wano wakati okudda eno wansi tan'abyeeyo, bbyo tebinnaba kutukula kuva eri janaba, kati bw'aba nga amaze okunaaba side eno, eno nga tannaba kunaabayo, n'asalawo yebbike mu mazzi bino ebiyungo ebisigaddeyo bbyo abinaabire mu mazzi, wabula nga bino agenze okugenda mu mazzi nga amaze okubinaaba, janaba tebikyaalina, n'asalawo neyekwaata neyebbika mu mazzi bino nga tannaba kubinaaba, **abaffe ekyo kkyo kiri kitya**, Nabbi atugambye nti: "لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنْبٌ", yye anabyeeko side eno, eno n'ajireka nga ekyaaayina janaba n'asalawo yye ajennyikire mu mazzi, n'asalawo janaba yaabino ebisigadde ajennyikire mu mazzi mwaaba ajinaabira, ekyo kiri kitya?.

Ba رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى [Abagoberera endaba ya Imaam Ibn Hazmi ku nsonga eno], ظَاهِرِيَّةٌ bbo bagamba nti: "kaakati mu mbeera eyo ono aba tali mu kuli okuziyizibwa, aba tayingidde mu kuli okuziyizibwa", **Iwaaki?**, kubanga Nabbi agambye nti: "وَهُوَ جُنْبٌ", amakulu yenna, janaba eyina kumubeerako yenna, omubiri gwonna, singa anaabako ekitundu ekimu ebbali ekintu ekirala n'alyooka akyennyikira mu mazzi okuziyiza **tekumukwaata**..

Wabula abamanyi abasigadde bbo bagamba nti: "mu mbeera era efaanaganako bweetyo nebwetuba tutambulidde ku kigambo ekyo eky'aba ظَاهِرِيَّةٌ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Dauda ne **Ibn hazmi ku nsonga eno**] era still basigala bakyaamu, **Iwaaki?**, kubanga ekintu kino kiyina janaba, ekyawaansi, tonnaba kukinaaba, kisigazizza janaba, kitegeeza nti janaba egenda kukiggweerako mu mazzi munda, janaba eyo egenda kuba eva ku biyungo bino nga edda mu mazzi era amazzi gali gajja kuba gafuuse "الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ", gakozeseddwaako mu kweetukuza, newankubadde nga eno totukuzzaayo kubanga yyo wamazeeeyo dda okutukuzaayo naye gatukuzza side eno, kati gagenda kuba "مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي رَفْعِ الْحَدِّثِ"

Amazzi agakozeseddwaako mu kwejjako ekizuusi, kizuusi ki ky'obadde wejjako?, obadde wejjako janaba ye kitundu kino ekya wansi.

Ekyookubiri Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ okutugaana okuba ntinno twennyika mu mazzi ago agali mu kifo nga gaakubeerawo lubeerera tegatambula, tegakulukuta, yatugaana lwa nsonga nti tugenda kwonoonera abantu amazzi gaabwe, oluusi tuyinza n'okuba nga tuyina **skin diseases**[endwadde z'olususu] nga tugenda kukosa amazzi ago abantu okufuundikira nga bakoseddwa, yensonga nti lwaaki Omubaka yatugaana, ekyo kibaawo [Ky'ekimu] سَوَاءٌ eno onaabyeeyo oba tonaabyeeyo, وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْلَىٰ وَأَعْلَمُ.

Tudde ku mazzi, amazzi gano singa omuntu agennyikamu n'ajeemera Nabbi, Nabbi yamugaana okwennyika mu mazzi nga ayina janaba oba حَيْضٌ [Omusaayi gw'ensonga z'abakyaala] oba نَفَاسٌ [Omusaayi ogufuluma oluvannyuma lw'okuzaala], yye n'asalawo n'agennyikamu, yye asigaza omusango gwe ogw'okuba ntinno akoze Nabbi kyeyagaana, kyeyaziyiza, naye abaffe amazzi gano gasigala matukuvu nga akkirizibwa okweetukuza nago yye n'abantu abalala oba nedda?_.

Amazzi gasigala matukuvu, eriyo abamanyi abagamba nti janaba ebeera evudde ku muntu ono nedda mu mazzi, nti ago amazzi ago gabeera gafunye janaba, **wabula ekigambo ekyo ssi kituufu** olwa hadith ya **اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ** agamba: **ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**

Omu ku bakyaala b'Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ yanaabira mu kyombo nga omukyaala oyo ayina janaba, n'anaabira mu kyombo newabaawo amazzi agaafikkawo, newabaawo amazzi agaasigalawo

oluvannyuma lwa yye okunaaaba, Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ najja n'ayagala okuba ntinno

afunisa amazzi ago obuwuzu oba okuba ntinno aganaabisa.

Omukyaala n'amugamba nti: "إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا يَا رَسُولَ اللَّهِ"

Owange ggwe Omubaka wa **Allah**, nabadde ne janaba mu kiseera wennanaabisizza amazzi ago, nabadde ne janaba, nga alinga amutegeeza nti ssi kituufu ggwe okweyambisa amazzi mu kufuna obuwuzu oba mu kunaaba, funa amazzi amalala ago naganaabisizzaako janaba!, nga alinga amutegeeza nti janaba weyavudde ku yye yazze mu mazzi ago.

Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ kwekumugamba nti: **"إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ"**

Amazzi tegabeera na janaba, amazzi tegafuna janaba, saagala mukyaala wange olowooze nti janaba weyavudde kuggwe yazze mu mazzi gano gewanaabisizza!.

Sso, olwa;

- ❖ Hadith ya أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ
- ❖ Hadith ya أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
- ❖ Ne hadith ya ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

Tugamba nti amazzi ago newankubadde nga omuntu ono abadde ne janaba n'agennyikamu, abadde ne حَيْضُ [Omusaayi gw'ensonga z'abakyaala] ne نَفَاسُ [Omusaayi ogufuluma oluvannyuma lw'okuzaala] n'agennyikamu, naye ggo gasigadde mazzi matukuvu, janaba tevudde ku yye nedda mu mazzi, حَيْضُ [Omusaayi gw'ensonga z'abakyaala] tevudde ku yye nedda mu mazzi nga bali webakyoogera, era ne نَفَاسُ [Omusaayi ogufuluma oluvannyuma lw'okuzaala] tevudde ku mukyaala ono nedda mu mazzi, amazzi ggo gasigala matukuvu kasita gasigaza langi yaagi, n'empunya yaago, n'ebisigadde.

Ekyookubiri omuntu wabeera nga ayina janaba tekitegeeza nti olwo afuuse [obukyaafu].

Hadith ya **أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ عَنْهُ** yali n'Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** nga batambula mu zimu ku nguudo zoomu kibuga Madinah, wabula Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** nekituuka ekiseera nga **أَبُو هُرَيْرَةَ** takyaamulaba, amagaamaga tamulaba, newayitawo ate akaseera **أَبُو هُرَيْرَةَ** n'akomawo, n'amubuuza nti: **"أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟"**

أَبُو هُرَيْرَةَ obadde ludda wa?, nakumazeemaze nga ssikyaakulaba, wanzirukiddeko ludda wa?, era wabadde olazeewa!?.

Swahaba n'amugamba nti: **"إِنِّي كُنْتُ جَنَابًا"**

Owange ggwe Omubaka wa Allah, nabadde ne janaba

"فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ"

Nentamwa okubeera naawe, nentamwa okutuula naawe nga ate nnyina janaba, kyennakoze nenkwaata ekkubo ne ngenda eka oba somewhere[awantu wanna] nemmala okuba ntinno ate neeyozaako, nnaaba janaba eyo then[oluvannyuma] nenkomawo.

Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** kweekugamba nti: **"سُبْحَانَ اللَّهِ!، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ"**

سُبْحَانَ اللَّهِ!, lwaaki Nabbi yali yeewuunya?,

Yeewuunya olwensonga nti **أَبُو هُرَيْرَةَ** (1) **yirimu** yonna jeyali alina yali takimanyi nti omukkiriza tabeera **فَجَسَّ**[obukyaafu].

سَوَاءً[ky'ekimu] ayina janaba oba tajiyyina, nga takimanyi ntinno omukkiriza yye tabeera **فَجَسَّ**[obukyaafu], y'ensonga lwaaki nti Omubaka yeewuunya n'agamba nti: **"سُبْحَانَ اللَّهِ!**", ekyo nga kyeewuunyisa!, **أَبُو هُرَيْرَةَ** ku yirimu yonna jooyina!,

"إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ"

1. **عَلَى:** Okumanya kwe ku nsonga z'obusiraamu

Kimanye nti omukkiriza tayina lw'abeera نَجَسٌ [obukyaafu];

- ❖ سَوَاءٌ [ky'ekimu] ayina janaba oba tayina.
- ❖ سَوَاءٌ [ky'ekimu] omukyaala ali mu حَيْضٌ [Omusaayi gw'ensonga z'abakyaala] oba tali mu حَيْضٌ [Omusaayi gw'ensonga z'abakyaala].
- ❖ سَوَاءٌ [ky'ekimu] omukyaala ali mu نَفَاسٌ [Omusaayi ogufuluma oluvannyuma lw'okuzaala] oba tali mu نَفَاسٌ [Omusaayi ogufuluma oluvannyuma lw'okuzaala], tabeera نَجَسٌ [obukyaafu].

Kati omuntu ono weyennyika mu mazzi olw'okuba nti ayina janaba tekitegeeza nti omubiri gwe نَجَسٌ [obukyaafu], nedda!, nti bw'anennyikamu amazzi gagenda kukyaafuwala, ⁽¹⁾أَبْدًا, amazzi gasigala matukuvu era yye mwennyini akkirizibwa okweetukuza nago, n'abantu abasigadde bakkirizibwa okuba ntinno beetukuza n'amazzi ago_.

1. Tekiri beerawo



